

110352 - سپیس ٹون چینل پر کارٹون فلمیں دیکھنے کا حکم

سوال

سپیس ٹون (Spease toon) چینل پر پیش کی جانے والی کارٹون فلمیں دیکھنے کا حکم کیا ہے، مثلاً فلم کیپٹن ماجد اور ٹوم اینڈ جیری، چاہے وہ بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے؟
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یہ چینل بہت ساری برائیوں پر مشتمل ہے، اور اس میں کئی ایک خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اپنے انگریزی نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنی برائیاں اور عقلی فساد و خرابیاں چھوٹوں اور بڑوں میں نشر کرنا شروع کرتے ہیں، اس لیے گھر کے ذمہ دار کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو یہ چینل دیکھنے دے؛ کیونکہ اس کا مشاہدہ کرنے والے کے عقیدہ پر برا اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح ان کے سلوک پر بھی اثر انداز ہو گا، اس چینل میں موجود چند ایک خرابیاں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

1 - ہاتھ سے تصویر کشی کرنا.

2 - موسیقی کا استعمال.

3 - بے پردگی اور بے حیائی والا لباس، مثلاً کھلاڑیوں اور پہلوانوں، اور تیراک والا لباس اور عموماً عورتیں.

4 - عشق و محبت اور جرائم وغیرہ جو دوسرے برے اخلاق اور شر و برائی پر مشتمل پروگرام.

- استاد نزار محمد عثمان کہتے ہیں:

" کارٹون فلموں میں جو اکثر موضوع بیان ہوتے ہیں وہ جرائم و قتل و غارت پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدلہ لینے کا عنصر اور شوق پیدا کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں کارٹون فلم کو فروخت کرنے کا ضامن ہے، اس طرح اسے تیار کرنے والوں کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جرائم و قتل و غارت کا مشاہدہ کرنا بچوں کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ ان پر رعب طاری کرتا ہے " مگر وہ آپستہ آپستہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر بچپن میں وہ اسے

تفریح سمجھنا شروع کر دیتے، لیکن معاملہ اس وقت بگڑتا ہے اور زیادہ قابل تشویش بن جاتا ہے جب ان بچوں کا معاشرے میں نفوذ ہوتا ہے " ...

اور ڈاکٹر عبد الوہاب المسیری کہتے ہیں:

" ٹوم اینڈ جیری کے قصے اور کہانیاں اور کارٹونی فلمیں لگتا ہے بری ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اپنے اندر ذہانت و نکاوت اور کندہنہی کی جنگ رکھتی ہیں، لیکن خیر و شر کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں، اور یہ اسے تیار کرنے والے کی نظریہ کا انعکاس ہے، اور اس دور میں تیار کردہ ہر چیز اسی میں منحصر ہے "

ماخوذ از: الرسول المتحرکة و اثرها علی تنشئة الاطفال .

ب۔ اور ڈاکٹر عبد الوہاب المسیری کے موسوعۃ " الیہودیۃ " میں لکھا ہے:

" ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ " ٹوم اینڈ جیری " کی کارٹون فلمیں بچوں میں سختی کے ذریعہ مشکلات کو ختم کرنے سے بڑا آٹو میٹک طریقہ ہیں " انتہی۔

ج۔ مشہور کارٹون فلموں میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے ایک چور اور ایک عورتوں کا پیچھا کرنے اور انہیں تنگ کرنے اور ان پر دست درازی کرنے والا ایسا شخص بنایا جس کی گھنی داڑھی تھی! اور یہ سب کو معلوم ہے کہ داڑھی مسلمانوں کا شعار اور علامت ہے، اور اس صورت میں کوئی مخفی نہیں کہ انہوں نے شر اور برائی کو اس ماڈل میں پیش کیا۔

د۔ اور کارٹون فلم " کیپٹن ماجد " جس کا ذکر سوال میں بھی ہوا ہے۔ میں لڑکیوں کا کھیل کے میدان میں آنے اور تماشاویوں کا انہیں داد دینے کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور پھراس کے ساتھ جب گول ہوتا ہے تو اس میں رقص و موسیقی اور چیخ و پکار اور مرد و عورت کے مابین معانقہ اور ایک دوسرے سے گلے ملنا بھی دکھایا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے پیچھے جاتی اور اسے اپنی محبت دیکھانے کے لیے ہدیہ اور تحفہ پیش کرتی ہے، اور اس کھلاڑی کا بوسہ بھی لیتی ہے!۔

اس فلم سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا سیکھیں گے؟! یقیناً یہ فحاشی اور قلت ادب اور عشق و محبت ہے، اور اس لڑکی کے لیے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کھلاڑیوں سے محبت کرے اور اپنا دل لگائے، اسی طرح ان کے ذہنوں میں غلط اور فاسد قسم کے معانی پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ معانی عملی واقعات میں منتقل ہو کر ان کے سلوک میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ہ۔ عقیدہ کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں، کارٹونی فلموں میں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، مثلاً:

ا۔ رب ذوالجلال کی بد صورت تصویر۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ کرنا جس میں آسمان کے درمیان دو جھگڑنے والوں کے

درمیان فیصلہ کر رہا ہے، اور یہ چیز سوال میں ذکر کردہ فلم " ٹوم اینڈ جیری " کی بعض قسطوں میں موجود ہے۔

ب - رب نوالجلال کی بد صورت تصویر پیش کرنا۔ جس میں وہ آسمان سے دوربین کے ذریعہ پوری زمین کو دیکھ رہا ہے! اور آسمان سے اتر کر مظلوم کی مدد کرتا ہے! اور بارش، ہوا، اور بادلوں پر کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ میکی ماوس کی قسطوں میں دیکھایا گیا ہے، اور اسے چوہا بنانا، اور پھر آسمان میں ان کے ایسا کرنے کا سبب کسی عقلمند پر مخفی نہیں ہو سکتا۔

ج - استاد نزار محمد عثمان کہتے ہیں:

اسے ثابت کرنے کے لیے ہم پہاں مشہور کارٹون فلموں کی مثال پیش کرتے ہیں، جسے " The Simpsons " جسے تیار کرنے والا میٹ قرگرینج " Matt Groening " تھا جو اپنی افکار ایسے اعمال کے ذریعہ منتقل کرنا چاہتا تھا جسے لوگ قبول کریں، تو اس نے خطرناک قسم کے مفہوم اور افکار اس کارٹون فلم میں پھیلانے شروع کر دیے، جن میں والدین یا پھر حکومت کے کنٹرول کو تسلیم نہ کرنا بلکہ اس کا انکار کرنا، اور برے اخلاق اور نافرمانی یہ دونوں مطلوبہ مقصد تک پہنچنے کی راہ ہیں، رہی جہالت تو یہ اچھی ہے، اور معرفت و پہچان ایسے نہیں، لیکن اس میں اس نے جو چیز سب سے زیادہ خطرناک پیش کی یہ وہ قسط ہے جس میں خاندان کا باپ " Homer Simpson " اس حالت میں سامنے آتا اور ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے پکڑا جسے درخت کاٹنے والوں کا نام دیا گیا ہے !! جب وہ سربراہ ان کے ساتھ ملتا ہے تو اس مجموعے کے افراد میں سے ایک شخص کو " Homer Simpson " میں ایک علامت اور نشانی نظر آتی ہے جو پیدائشی طور پر اس میں تھی، جسے وہ لوگ مقدس سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ شخص برگزیدہ اور چنا ہوا ہے، اسے جو قوت و بزرگی حاصل ہوتی ہے اس کی بنا پر " Homer Simpson " یہ خیال کرنے لگتا ہے وہ رب ہے، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے: کون ہے جو رب کے متعلق سوال کرتا ہے کہ کوئی پروردگار اور رب ہے، اب مجھے بھی ادراک ہو رہا ہے کہ کوئی رب ضرور ہے، اور وہ میں ہوں !! "

استاد نزار کا " کارٹونی فلمیں اور ان کا بچوں کی پرورش پر اثر " میں کہنا ہے:

6 - عرب اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق، اس کی مثال یہ ہے کہ سکوی ڈو " Scobby Doo " اور " William Hanna " اور " Joseph Barbera " نامی مشہور کارٹون فلمیں جو ٹوم اینڈ جیری کے بعد آفاقی شہرت یافتہ ہیں انہوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے کی ایک قسم میں ایک مسلمان جاوڈ گر جب سکوی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہہ کر فخر کرتا ہو دکھایا گیا ہے کہ: میں بالکل اسی انتظار میں تھا، جس شخص پر میں اپنا کالا جادو آزمائوں " اور اس میں مسلمان جادو گر سکوی کو بندر بنانے کی رغبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جادو اس پر الٹ جاتا ہے اور وہ جادو گر خود بند بن جاتا ہے، اور سکوی اپنے آپ سے یہ کہتا ہوا ہنستا ہے کہ: اس جادو گر کو جو ہمارے ساتھ معاملات صحیح نہیں رکھتا تھا ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں تھا کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو "

اور سکوی ڈو کی ایک اور قسط میں مومیائے مصر سکوی اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں، انہیں یہ شک ہے کہ مومیا نے ان کے دوست ڈاکٹر نسیب (مسلمان عربی شخص) کو پتھر بنا دیا ہے، اور آخر میں سکوی مومیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور باسکٹ بال کے ایک مقابلہ میں مومیا سے ملتا ہے لیکن جب وہ مومیا کا نقاب اتارتا ہے تو - سکوی کی دہشت کی بنا پر - وہ دیکھتا ہے کہ وہ مومیا نہیں بلکہ وہ تو وہی ڈاکٹر نسیب ہے جو سکوی سے مومیا کے لباس میں سکوی سے قیمتی ٹکڑا چوری کرنا چاہتا تھا، یعنی سکوی چوری کرنے والے ایک مسلمان کو بچانا چاہتا ہے، مسلمان شخص اس حد تک ردی اور گر چکا ہے

ماخوذ از: "الرسول المتحرک و اثرها علی تنشئة الاطفال"

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے:

"کارٹون فلموں کی خرید و فروخت جائز نہیں؛ کیونکہ اس میں حرام تصاویر پائی جاتی ہیں، بچوں کی شرعی طریقہ سے پرورش کی جائے، انہیں تعلیم دی جائے، اور انہیں ادب سکھایا جائے، انہیں نماز کی تعلیم دیں، اور ان کی اچھی دیکھ بھال کریں"

الشیخ عبد العزیز بن باز.

الشیخ عبد العزیز آل شیخ.

الشیخ صالح الفوزان.

الشیخ بکر ابو زید.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (1 / 323).

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے: آپ کے لیے کارٹون فلموں کا بچوں کی پرورش اور خاص کر عقیدہ پر اثر انداز ہونا کوئی مخفی نہیں، لیکن اگر - خاص کر اس وقت - اتاری نامی آلہ کی کیسٹیں پائی جائیں تو کیا یہ کیسٹیں کارٹون فلموں کا عوض اور بدل بن سکتی ہیں؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"ہمیں یہ بہت زیادہ اور بکثرت بتایا جاتا ہے کہ ٹی وی پر پیش کی جانے والی کارٹون فلمیں مضر اور نقصان دہ ہیں،

اور ہو سکتا ہے یہ عقیدہ کے لیے بھی نقصانده ہوں، لیکن کیا آپ نے کسی محدود چیز کو دیکھا یا سنا ہے جو عقیدہ کے منافی ہے یا نہیں دیکھا اور سنا؟....

اچھا: تو پھر یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی اولاد اور بچے اور بچیوں کو یہ کارٹون دیکھنے دیں کیونکہ یہ عقیدہ بدل دیتے ہیں، تو پھر ہم انہیں کیسے دیکھنے دیں؟ !.

دیکھیں: لقاءات الباب المفتوح (71) سوال نمبر (2) .

والله اعلم .